

برائے فوری اجراء

## سٹی 2021 ایکسیبلٹی ایوارڈ کے مقامی فاتحین کی رسائی کی خدمات کو رسائی کے چیمپئنز کے طور پر تسلیم کرتا ہے

برامپٹن، آن (3 جون 2021) – کل نیشنل ایکسیبلٹی ویک کے دوران سٹی آف برامپٹن نے 2021 ایکسیبلٹی ایوارڈ کے لیے اپنے فاتحین کا اعلان کیا ہے۔ تسلیم شدہ افراد اور تنظیموں نے معذوریوں کے حامل افراد کی رسائی اور شمولیت میں بہتری لانے کے عزم کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے اور وہ برامپٹن کی کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے مسلسل کوشاں رہے ہیں۔

برامپٹن سٹی کونسل کی آج کی میٹنگ کے دوران درج ذیل ایکسیبلٹی چیمپئنز کی خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے:

### مشال میک لیوڈ – کمیونٹی ممبر کا زمرہ

مشال نے معذور افراد کو تفریح، فرصت کے لمحات اور زندگی کی مہارتیں سکھانے میں مدد فراہم کی ہے تاکہ وہ معاشرے میں بامعنی طور پر ضم ہو جائیں اور ایک خودمختار زندگی گزارنے میں ان کی بھرپور مدد کی ہے۔ وہ ان کی وکالت کرتی ہیں اور ان کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ مشال کو معذور افراد کی زندگیوں سے رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پہچانا جاتا ہے؛ وہ معذوریوں کے حامل افراد کے لیے ہر جگہ گنجائش بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں؛ معذور لوگوں کو ملازمت میں بھی معاونت فراہم کرتی ہیں؛ انہیں مثالی کسٹمر سروس فراہم کرتی ہیں اور خودمختار زندگی گزارنے میں ان کی بھرپور مدد کرتی ہیں۔

### کیریز پلینس آٹزم سروسز – کمیونٹی آرگنائزیشن یا نان پرافٹ کا زمرہ

کیریز پلینس آٹزم سروسز کی جانب سے برامپٹن کمیونٹی کے لیے خدمات اور معاونت میں اضافہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور ان کی توجہ ایسے معذور افراد کے لیے رسائی میں اضافے پر خصوصی طور پر مرکوز ہے جن میں آٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر کی تشخیص ہوئی ہو، بشمول ان کی راہ سے رکاوٹوں کو دور کرنا مثلاً تفریحی سہولت گاہوں تک ان کی رسائی میں بہتری لانے پر ان کی خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ کووڈ-19 کی عالمی وبائی مرض کے دوران، کیری پلینس نے کمیونٹی کی شمولیت کو محفوظ اور بامعنی انداز میں برقرار اور بحال رکھنے کے لیے بہت زیادہ گنجائش پیدا کی ہے۔ انہیں معذور افراد کی زندگیوں سے رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پہچانا جاتا ہے؛ وہ معذوریوں کے حامل افراد کے لیے ہر جگہ گنجائش بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں؛ وہ بطور ایکسیبلٹی ایمپلیس کام کرتے ہیں؛ معذور لوگوں کو ملازمت میں بھی معاونت فراہم کی جاتی ہے؛ انہیں مثالی کسٹمر سروس فراہم کی جاتی ہے اور خودمختار زندگی گزارنے میں ان کی بھرپور مدد کی جاتی ہے۔

### CSR ویلتھ منیجمنٹ – برامپٹن بزنس کا زمرہ

فرینک گیسپر، رجسٹرڈ ڈس ایبلٹی سیونگز پلانز (RDSPs) میں خصوصی مہارت کے حامل ایک فنانشل ایڈوائزر ہیں۔ ان کو معذوریوں کے حامل افراد کے لیے ہر جگہ گنجائش بنانے کے لیے پہچانا جاتا ہے اور رسائی کے حوالے سے وہ معذور افراد کو ایک مثالی کسٹمر سروس فراہم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ بہت سے لوگوں تک پہنچے ہیں، آگاہی پیدا کرنے کے لیے کئی نشستوں کا انعقاد کیا ہے اور ہر شخص کے ساتھ مل کر ایک ایسی پروفائل کی تشکیل اور تخصیص کے لیے جانفشانی سے کام کرنے کے لیے خود کو وقف کر کے معذور لوگوں کو بہتر مواقع مہیا کرنے کی ایسی سرتوڑ کوششیں کی ہیں جو معاشی طور پر مستحکم مستقبل کو یقینی بنا رہی ہیں۔

### EMBRACE – ایکسیبلٹی پروگرام/انیشینٹو کا زمرہ

مشال بکلینڈ نے 2010 میں اس مقصد کے تحت EMBRACE کی بنیاد رکھی کہ معذور افراد اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں میں نکھار پیدا کر سکیں اور انہیں ذاتی اور پیشہ وارانہ ترقی، قابل رسائی انضمام اور اپنی اثر انگیز تقاریر کے ذریعے اپنے مقاصد تک پہنچنے کی ترغیب دی۔ مشال معذور افراد کے لیے ایک سفیر اور وکیل کی حیثیت سے سرگرم عمل ہیں اور ان کا نصب العین یہ ہے کہ "ہمارے لیے عمر بھر کیے دوران سیکھنے کی صرف وہی حدیں ہوتی ہیں جنہیں ہم خود شعوری طور پر طے کرتے ہیں۔" مشال کو معذور افراد کی زندگیوں سے رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پہچانا جاتا ہے؛ وہ معذوریوں کے حامل افراد کے لیے ہر جگہ گنجائش بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں اور معذور لوگوں کو ملازمت میں بھی معاونت فراہم کرتی ہیں۔

برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے اور سٹی آف برامپٹن معذور افراد کے لیے رسائی کو بڑھانے کے مواقع اور اپنی متنوع کمیونٹی میں سب سے تعلق رکھنے کے ایک مضبوط احساس کی نشاندہی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایکسیبلٹی ایوارڈ کا آغاز 2018 میں کیا گیا تھا اور اس کا مقصد معذور افراد کو رسائی میں آسانی پیدا کرنے والے ایسے چیمپئنز کی خدمات کا اعتراف کرنا تھا

جو معذور افراد کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرتے ہوں، معذوری کے حامل افراد کے لیے ہر جگہ گنجائش بناتے ہوں، رسائی کے ایک ایمپیسٹر کے طور پر کردار ادا کرتے ہوں، معذوری کے حامل افراد کو ملازمت میں معاونت فراہم کرتے ہوں، رسائی کے لیے ایک مثالی کسٹمر سروس فراہم کرتے ہوں، ان کی خود مختار زندگی گزارنے میں انہیں معاونت فراہم کرتے ہوں اور اس سال قابل رسائی بنانے کے پروگرام میں نئی چیز کے طور پر ترغیبات رکھی گئی ہیں۔

سٹی اور اس کی **ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی** اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ برامپٹن میں رہنے والے ہر عمر اور ہر طرح کی استعداد کے حامل لوگ برامپٹن میں رہائش، کام، کھیل، سیر اور سرمایہ کاری کے ایک جیسے مواقع سے لطف اندوز ہونے چاہیں۔ سٹی میں رسائی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سٹی کی ویب سائٹ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

ایکسیسیبلٹی ایوارڈز اور فاتحین کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

### اقتباسات

"برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے اور سٹی معذور افراد کے لیے رسائی کے مواقع میں اضافے اور اپنی متنوع کمیونٹی میں سب سے وابستہ رہنے کے ایک مضبوط احساس کی نشاندہی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 2021 ایکسیسیبلٹی ایوارڈز کے فاتحین کا بہت شکریہ جنہوں نے برامپٹن میں معذور افراد کے لیے رسائی پیدا کرنے میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا ہے اور رہائشیوں کا بھی شکریہ جنہوں نے انہیں منتخب کر کے ان کی کاوشوں کا اعتراف کیا ہے۔ ہمارے شہر کو سب کے لیے مشمول بنانے میں پوری کمیونٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔" - پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل کی ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹیوں کے ایک رکن کے طور پر، مجھے اس کام پر فخر ہے، جو ہمارے رہائشی برامپٹن کو تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی اور مشمول بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ فاتحین تنوع کے چیمپن ہیں اور ان کا یہ بیش قیمت کام ہمارے شہر پر بہت اچھے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ مل جل کر کام کرنا جاری رکھتے ہوئے، ہم برامپٹن کو تمام صلاحیتوں کے حامل لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنا سکتے ہیں۔"

- پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8؛ ممبر سٹی آف برامپٹن ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر ریجن آف پیل ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی

"سٹی آف برامپٹن کی جانب سے ہم کونسل کی مدت کی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں: برامپٹن مختلف کمیونٹیوں پر مشتمل ایک حسین گلدستے کی مانند ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہر عمر اور صلاحیت کے مالک لوگ اس شہر سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ 2021 ایکسیسیبلٹی ایوارڈز کے فاتحین کا بہت شکریہ جو برامپٹن میں رسائی کو فروغ دینے میں ہماری بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ اس نیشنل ایکسیسیبلٹی ویک کے دوران، سٹی کو ایسے لوگوں، کاروباروں اور تنظیموں کے کردار کی اہمیت کی تسلیم کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے جو رسائی میں اضافے اور معذور افراد کی معاشرے میں شمولیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

- ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)